

COLONOSCOPY

معمول کی دوا لینا

- اگر آپ کوئی باقاعدہ دوا (روزانہ یا ہفتہ وار (کھا رہے ہیں تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کولونوسکوپ کے دن اور اس سے ایک دن پہلے یہ دوا کیسے لینی ہے۔ ذیل میں صرف رہنما اصول دئیے جا رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی مخصوص سوال ہے تو ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کم از کم ایک ہفتہ پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
- آپ کی باقاعدہ دوا: آپ زیادہ تر ادویات اپنے معمول کے وقت پر لے سکتے ہیں۔ آپ کی تمام باقاعدہ ادویات کولونوسکوپ کے بعد بھی جاری رہنی چاہئیں۔
- ذیابیطس کی دوا: ان ادویات کا استعمال کولونوسکوپ کے وقت قریب آنے پر تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کولونوسکوپ کی تیاری کرنے والے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ہدایات سے رجوع کریں۔
- diclofenac (Arthrotec®) سوزش کُش ادویات (جنہیں بالعموم درد یا سوزش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے (جیسا کہ Voltaren®)۔ ان ادویات (Aleve®, Anaprox®, Naprosyn®, Vimovo® مثلاً) یا نیپروزن (مثلاً Advil®, Motrin®) مثلاً) بروفن (مثلاً Voltaren®) کو جاری رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ج
- اسے معمول کے مطابق لیتے رہیں۔ (Tylenol® مثلاً) ایکٹامینوفن
- اسے معمول کے مطابق لیتے رہیں۔ (ASA یا) اسپرین
- عام طور پر یہ ادویات جاری رکھی جاتی ہیں۔ کولونوسکوپ کے دوران انجام (Brilinta) ٹیگاکریلر (مثلاً Plavix®) لیپڈوجرل دئیے گئے مخصوص پروسیجرز (جیسا کہ بڑے پولیپ کا خاتمہ (کی صورت میں آپ کا ڈاکٹر کولونوسکوپ سے 57-75 دن روز پہلے آپ کو یہ ادویات لینے سے روک سکتا ہے۔ آپ ٹیسٹ کے بعد یہ ادویات جاری رکھیں گے۔
- یا (Pradaxa®) ڈیبیگیٹرن (Eliquis®) ایپیکسابین (Coumadin®) مثلاً) خون پتلا کرنے والی ادویات جیسا کہ وارفرین یہ ادویات لینے کے طریقے سے متعلق اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ (Xarelto) ریواروکزبان
- بلڈ پریشر کی ادویات: ٹیسٹ کی تیاری کے دوران بھی یہ ادویات لینا مت بھولیں۔ ٹیسٹ کے دن، ٹیسٹ سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے پانی کے ساتھ یہ ادویات لیں۔
- نیند یا بے چینی کی معمول کی دوا: انہیں معمول کے مطابق لیا جا سکتا ہے۔
- فولاد والی ادویات جیسا کہ فیرس فوماریٹ، فیرس گلوکونیٹ، فیرس سلفیٹ، آرنن والے ملٹی وٹامن۔ پروسیجر سے ایک ہفتہ پہلے سے انہیں لینا بند کر دیں۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔

